

## 36. YASIN (YASIN)

Suet ke-36: 83 ayat

Ngen sebut gen Allah De Maho Pengasiak, Maho Penyayang.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

1. Yasin.

يَس ١

2. Demi Al Quran de penuak hikmah.

وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ ٢

3. Sesungguakne ko termasuk dikup kundi utusan-utusan (Tuhan).

إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ٣

4. (De ade) neak das dalen de lu us.

عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ٤

5. (wahyu) de tenu'un kunei De maho kuaso, De maho penyayang.

تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ٥

6. Supayo ko melei penginget magea kaum de bak-bak tobo o ati perneak melie pengiget, kareno tobo o lalai.

لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ ءَابَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ ٦

7. Sesungguakne mestai tejjai de nadeak (Tuhan) magea de dau tobo'o, kerno tobo o coa ade de pecayo ne.

لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٧

8. Sesungguak ne Keme bi masang lenggau, neak kagen tobo 'o, sudo o tagen tobo o (neket) moi dagaune, sehingga tobo o tetanggeak.

إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ ٨

9. Dan keme menea neak adep to bo o ket, neak belakang tobo o ket (kulo) sudo o keme temutup matai tobo o, sehingga to bo o coa dapet mengeliak igai.

وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ٩

10. Dan Serai bae bagi tobo o jano udi melei penginget ngen si, atau udi coa melei penginget , tobo o tep coa pecayo.

وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْتَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ١٠

11. Sesungguak ne ko hanyo melei penginget magea tun de lok temotoa penginget o, dan de saben ngen Tuhan De maho pemueak, walaupun si coa kemleak Ne, mako kelei bah ngen si kabar baik keampunan ngen pahalo de muliyu.

إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ الْغَيْبَ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ ١١

12. Sesungguakne Keme midup tun-tun matei,

إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَءَاثِرَهُمْ ١٢

dan keme cematet jano de sudo tobo o kemerjo (menae) dan kes-kes de teninggea tobo o . Dan jano bae Keme kemopoa neak lem pelbei kiteb de nyato (Lawh Mahfuz).

وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ ﴿٣٢﴾

13. Dan kenea bah do inde magea tobo o awei penduduk do negerei ketiko teko mindi tun-tun de nutus (mindi).

وَأَصْرَبْ هُمْ مَثَلًا لِّصَحْبِ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿٣٣﴾

14. (Adebah) sewakta Keme mutus magea tobo o duwai utusan, keduawai ne nelatok tobo o mike, sudo o Keme kemwet ngen (utusan) ketelaw. Mako katelaw ne madeak “sesungguakne keme yo adebah tun-tun de nutus magea kumu dau yo.

إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اتِّبِينَ فَكَذَّبُوهُمَا فَعُزِّرْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ ﴿٣٤﴾

15. Tobo o jemawab, udi cuma manusio awei keme yo. Dan Allah De Maho Pengasiak coa temu'un jejano, udi yo coa luyen kecuali pengike.

قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ ﴿٣٥﴾

16. Tobo 'o madeak; Tuhan keme namen bahwo sesungguakne keme yo niyen nutus magea kumu dau yo.

قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ ﴿٣٦﴾

17. Dan kewajiban keme coa luyen kecuali semapei (perintah Allah) de nyato.

وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿٣٧﴾

18. Tobo jemawab :”Sesungguakne keme benasib malang kerno udi, sesungguak ne amen udi coa bedan (majok keme), niscayo keme meluk udi ngen butau,dan udi pasti meding sikso de gis kundei keme”.

قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٣٨﴾

19. Utusan-utusan o medeak “malang udi o adebah kerno udi dewek. Janokah udi pernah nelei pengiget (udi macam keme)? Sebenea ne udi adebah kaum de melapau batas.

قَالُوا طَيَّرْنَاكُمْ مَعَكُمْ إِنْ دُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿٣٩﴾

20. Dan teko bah kundei ujung kota, dikup semanie (Habib an Najjar) gagulut si madeak;”Oi kaumku, totoa bah utusan-utusan o.

وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ ﴿٤٠﴾

21. Toota bah tun de coa minoi bales magea udi: dan tobo o adebah tun-tun de dapet petunjuk.

اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْئَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُّهْتَدُونَ ﴿٤١﴾